

## اردو میں دوہرے اور تہرے مصوتون کے وجود کے امکانات اور انکی شناخت

### ادبی جانبہ

ماضی میں دوہرے اور تہرے مصوتون پر کچھ زیادہ کام نہیں کیا گیا۔ البته بعض دوہرے مصوتون کی شناخت اور ان کی سمیعاتی خصوصیات پر مقتندرہ قومی زبان نے جون نے ۲۰۰۳ میں اخبار اردو میں ایک مقالہ شائع کیا ہے [۱]۔ اس مقالے میں ۲۲ ممکنہ دوہرے مصوتون کی فہرست میں سے ۱۳ دوہرے مصوتے تلاش کئے گئے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کی تعداد میں اضافہ بوسکتا ہے اور ان کی فہرست جامع نہیں ہے۔ زیرِ نظر مقالے کا مقصود دوہرے مصوتون کی اس ادھوری فہرست کو مکمل کرنا ہے۔ دنیا کی بیشتر زبانوں میں دوہرے مصوتون کا استعمال نہیں ہوتا [۲]۔

عام طور پر اگر ایک زبان میں ۱۰ سے زیادہ مصوتے پائے جائیں تو اس زبان میں دوہرے مصوتون کا امتزاج پایا جا سکتا ہے [۳]۔ جیسے کہ اردو میں > طویل، ۳ مختصر اور ۶ انفیانی مصوتے (منان) ۲۰۰۲ پائے جاتے ہیں لہذا اردو میں دوہرے مصوتے پائے جانے کا امکان موجود ہے۔

ڈاکٹر محبوب عالم [۴] کے مطابق اردو میں دوہرے مصوتون کا کوئی صوتیاتی وجود نہیں البته ان کے صوتی وجود کے صوتی میں دوہرے مصوتون کی تیزی سے مگر بلا رکاوٹ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سننے والے کو وہ ایک صوت، بجھے با صوتیہ سمجھے میں آتا ہے۔ بنیادی مصوتون کو ادا کرتے ہوئے زبان ایک ہی جگہ پر ریتی ہے، جبکہ دوہرے مصوتون میں وہ حرکت کرتی ہے۔

### طریقہء کار

### ڈینا کا حصول

اردو کی لغت فیروز الفاظ [۵] کو دیکھ کر ممکنہ دوہرے اور تہرے مصوتون کی ایک فہرست تیار کی گئی۔ وہ سارے الفاظ جن میں دویاتین مصوتے اکٹھے پائے گئے، انہیں ممکنہ دوہرے اور تہرے مصوتون کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔

### معمول

سوئے کے معمولات میں لا بوری اردو کے ۲۰ ایل زبان تھے۔ انہیں بجھے بندی کے بارے میں اردو کی چند مثالوں کے ذریعہ تعلیم دی گئی۔ پھر ان سے کہا گیا کہ وہ ان مثالوں اور اپنے پیدائشی علم کو استعمال کر کے فہرست میں دیئے گئے الفاظ کے بجے کریں۔

### خلاصہ

زیرِ نظر مقالہ ممکنہ دوہرے اور تہرے مصوتون کے بارے میں آکاہی دیتا ہے۔ ان دوہرے اور تہرے مصوتون کی شناخت کے لیے لغت کی مدد سے ممکنہ دوہرے اور تہرے مصوتون کی فہرست تیار کی گئی اور پھر اس علاقے کے ایل زبان سے کہا گیا کہ وہ ان الفاظ کے بجے کریں۔ انہوں نے جو دوہرے اور تہرے مصوتے شناخت کیے ان کا دروانی کے اعتبار سے تجزیہ کیا گیا اور پھر خالص مصوتون کے دروانی سے موازنہ کیا گیا۔ اس طرح سے پرچہ کے آخر میں دیے گئے نتائج حاصل کیے گئے۔

### کلیدی الفاظ

دوہرے مصوتے (Diphthong)، تہرے مصوتے (Triphthong)، صوتیہ (Syllable)، صوتیہ (Phoneme)، صوتیات (Phonetics)، دروانیہ (Duration)

### تعارف

صوتیات میں دوہرہ مصوتہ دو مصوتون کے ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں زبان ایک مصوتے کی جگہ سے دوسرے مصوتے کی جگہ پر بہت تیزی سے مگر بلا رکاوٹ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سننے والے کو وہ ایک صوت، بجھے با صوتیہ سمجھے میں آتا ہے۔ بنیادی مصوتون کو ادا کرتے ہوئے زبان ایک ہی جگہ پر ریتی ہے، جبکہ دوہرے مصوتون میں وہ حرکت کرتی ہے۔

بنیادی مصوتون کو صوتی رسم الخط میں ایک علامت سے دکھایا جاتا ہے، جیسے انگریزی میں "seem" کو [si:m]، جبکہ

دوہرے مصوتون کو دو علامات سے دکھایا جاتا ہے جیسے انگریزی میں "house" کو [haus] لکھا جاتا ہے، جہاں یہ دو مصوتے زبان کی ابتدائی اور اختتامی جگہ دکھا رہے ہوتے ہیں [eɪ]۔

دوہرے مصوتون کے دروانیے کا انحراف بہت سے عوامل پر بوتا ہے۔ ان میں مصوتے کے بعد آنے والا مصتمتہ، بولنے کی رفتار، رُکنی زور، کسی لفظ کے کل ارکان، جملے یا فقرے میں مصوتے کی جگہ، لفظ کی قسم اور بولنے والے کی طرف سے کسی لفظ کو دی جانے والی اہمیت جیسے عناصر شامل ہیں۔ دوہرے مصوتون پر بھی بنیادی مصوتون والے ضابطے لا گو بوتے ہیں [eɪ]۔

## ڈیٹا کی صوت بندی اور تجزیہ

جدول ۱: اردو کے ۲۰ مقررین کے دوسرے مصوتون کے سروے کے نتائج

نتیجہ	ووٹوں کی تعداد	الفاظ	دوبرا مصوتہ	نمبر
A	۱۹	kiu~	iu~	۱
A	۱۶	gea	ea	۲
A	۱۶	k ði	ði	۳
A	۱۶	gðe	ðe	۴
A	۱۳	dəlmi	aI	۵
A	۱۳	ao	ao	۶
A	۱۳	deo	eo	۷
A	۱۳	hui	ui	۸
A	۱۳	au~	au~	۹
A	۱۲	k <sup>h</sup> oe	oe	۱۰
A	۱۲	tʃ <sup>h</sup> auni	au	۱۱
A	۱۲	muaʃra	ua	۱۲
A	۱۲	hue	ue	۱۳
A	۱۰	k <sup>h</sup> oi	oi	۱۴
A	۱۰	nloṭa	Io	۱۵
A	۱۰	muðadʒd ʒðl	vð	۱۶
A	۱۰	dʒio	iø	۱۷
A	۱۰	hua	ua	۱۸
R	۸	roi~	oi~	۱۹
R	۸	muʃmðIn	ðI	۲۰
R	۸	æ~	æ~	۲۱
R	۸	k ia	ia	۲۲
R	۸	mumaneð t̪	eð	۲۳
R	۷	hui~	ui~	۲۴
R	۷	ai~	ai~	۲۵

دوسرے مصوتے رکھنے والے الفاظ کی صوت بندی ۳ مرداور ۳ خواتین مقررین کی آواز میں کی گئی۔ انہیں مقررین کی آواز میں سادہ مصوتون پر مشتمل الفاظ کی بھی صوت بندی کی گئی۔ صوت بندی اور تجزیہ پر ۳-۹-۳۵ پر کیا گیا جو کہ windows استعمال کرنے والوں کے لیے گفتگو کا تجزیہ کرنے کا سافٹ ویئر ہے۔ دیگر آلات میں ایک Teac کا stereo amplifier، ایک microphone اور دو اعلیٰ اسپیکر شامل ہیں۔

## طریق عمل

شناخت کردہ دوسرے اور تہرے مصوتون کی فہرست کو استعمال کرتے ہوئے لاپوئی اردو کے ۲۰ ابل زبان سے انثرویو کیا گی۔ انہوں نے اپنے پیدائشی علم اور ان مثالوں کو استعمال کر کے جوان کو انثروپوسے پہلے دی گئی تھیں، الفاظ کے بجے کیے۔ اس انثرویو کے نتائج دیکھتے ہوئے دوسرے مصوتون کی شناخت کی گئی۔

دوسرے / تہرے اور بنیادی مصوتون پر مشتمل الفاظ کی ۶ مقامی مقررین کی آواز میں صوت بندی کی گئی۔ ان کی شناخت کے لیے دوسرے مصوتون کا دورانیہ استعمال کیا گیا۔ اگر دو اکٹھے مصوتون کا دورانیہ ۳۵۰ ملی سیکنڈ (جو کہ ایک طویل صوتے کا دورانیہ بوتا ہے) سے کم پایا گیا تو وہ دوسرہ مصوتہ ثابت ہو گیا۔ علاوه ازین اگر دوسرے مصوتے میں موجود مصوتون کی بنیادی قسم کے دورانیے جمع کیتے جائیں تو انہیں ایک طویل صوتے کے دورانیے سے تجاوز کرنا چاہیئے۔

## نتائج

دوسرے مصوتون کے سروے کے نتائج جدول ۱ اور تہرے مصوتون کے سروے کے نتائج جدول ۲ میں درج ہیں۔ دوسرے کالم میں متوقع دوبرا/ تہرا مصوتہ درج ہے۔ تیسرا کالم میں ان دوسرے / تہرے مصوتون پر مشتمل الفاظ لکھے گئے ہیں۔ چوتھے کالم میں دوسرے / تہرے مصوتے کی موجودگی کے حق میں ووٹوں کی تعداد موجود ہیں۔ اگر ۵۰ فیصد یا ۵۰ فیصد سے زیادہ افراد نے اس کو دوبرا/ تہرا مصوتہ سمجھا تو اسے اردو کے دوسرہ / تہرہ مصوتہ والے الفاظ کی فہرست میں شامل کر لیا گیا، جیسے کہ کالم ۵ میں دکھایا گیا ہے۔

ابل زبان نے ۳ ممکنہ دوسرے / تہرے مصوتون کی فہرست میں سے ۱۸ کو دوسرہ مصوتہ گردانا۔ دوسری طرف کوئی بھی تہرہ مصوتہ نہیں پایا گیا۔

کی اوسط لی گئی (دیکھئے جدول ۶)۔ یہ دورانیے ۳۵۰ ملی سیکنڈ سے کم نکلے جس سے ثابت ہو گیا کہ یہ مصوتے دوسرے بین۔ علاوه ازین انہیں مقررین کی آواز میں ان بنیادی مصوتون کی صوت بنندی کی گئی جو کہ دوسرے مصوتون میں پائے گئے تھے۔ ان بنیادی مصوتون کے دورانیے کی اوسط لی گئی۔ ان دورانیوں کے حاصل جمع کا ان کے متعلقہ دوسرے مصوتون کے دورانیوں سے تقابل کیا گیا (دیکھئے جدول ۷)۔

اس طرح اس ڈینا سے یہ ثابت ہو گیا کہ مقامی اپل زبان نے جو دوسرے مصوتے شناخت کیے تھے وہ واقعتاً اپنے بنیادی مصوتون کے مجموعی دورانیے سے کم دورانیہ رکھتے ہیں۔

### بحث

سروے سے حاصل کیے گئے ڈینا سے یہ بات مشابدے میں آئی کہ مقررین میں دوسرے مصوتون کی تعداد شناخت کرنے کی میں خاصاً تضاد پایا جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک مقرر نے ۳۲ دوسرے مصوتے شناخت کیے جبکہ ایک اور مقرر نے صرف ۷ دوسرے مصوتے شناخت کیے۔ اس سے پتہ لگا کہ تجزیہ ارکان کا دارو مدار کم و پیش مقرر پر بوتا ہے۔

ایک دلچسپ بات جو مشابدے میں آئی وہ یہ تھی کہ دو مقررین نے ایک لفظ کو تہرا مصوتہ گردانا، جبکہ اور کسی نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے بھی دلچسپ بات یہ تھی کہ ان دو مقررین نے ایک بھی لفظ "nIao" میں تہرا مصوتہ "Iao" "شناخت کیا۔ ان دو مقررین نے دیگر الفاظ میں سے کوئی تہرا مصوتہ شناخت نہیں کیا۔

لغت کو جانچ کریے معلوم ہوا کہ اردو میں ایسے الفاظ بہت کم بین جن میں دو مختص مصوتے ایک ساتھ پائے گئے ہوں۔ البتہ اس طرح کے دو الفاظ تلاش کر لیے گئے تھے، جن میں سے صرف ایک میں دوسرے مصوتہ شناخت کیا گیا۔ شناخت کئے گئے دوسرے مصوتون کی اکثریت دو طویل مصوتون یا پھر ایک طویل اور ایک مختص مصوتے پر مشتمل تھی۔

بنیادی انفیائی مصوتے دورانیے میں نسبتاً طویل ہوتے ہیں۔ ۱۸

میں سے ۲ مصوتے انفیائی تھے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ ان دونوں دوسرے مصوتون میں ایک بھی انفیائی مصوتہ ۷۴ پایا گیا۔

دوسرے مصوتون کے دورانیوں کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ بات مشابدے میں آئی کہ دورانیہ کا دارو مدار مقرر اور سیکشن ۱ میں درج عنصر پر بے۔ صوت بنندی کے دوران ان تمام عناصر کو مدد نظر رکھا گیا۔

وہ دوسرے مصوتے جو دو طویل مصوتون پر مشتمل تھے، ان کا دورانیہ ۳۵۰ ملی سیکنڈ کے قریب پایا گیا۔ جبکہ وہ دوسرے مصوتے جو ایک طویل اور قلیل مصوتے پر مشتمل تھے ان کا دورانیہ ۳۰۰ ملی سیکنڈ سے کم پایا گیا۔ وہ دوسرے مصوتے جو دو قلیل مصوتون پر مشتمل تھے ان کا دورانیہ نمایاں طویل ۱۵۰ ملی سیکنڈ بھی پایا گیا۔

اگر دو بنیادی طویل مصوتون کا دورانیہ جمع کیا جائے تو حاصل ایک طویل مصوتے کے دورانیے سے زیادہ ملتا ہے۔ البتہ اگر ایک بنیادی طویل مصوتے اور ایک بنیادی قلیل مصوتے کے دورانیے کو جمع کیا جائے تو

R	<	k <sup>h</sup> ai	ai	۲۶
R	<	roe~	oe~	۲۷
R	۶	ʃəur	əu	۲۸
R	۵	zehničt	ið	۲۹
R	۵	larkia~	iɑ~	۳۰
R	۵	pæi	æi	۳۱
R	۳	k <sup>h</sup> ae	ae	۳۲
R	۳	kie	ie	۳۳
R	۳	kuo~	uo~	۳۴
R	۳	dhue~	ue~	۳۵
R	۱	dhua~	ua~	۳۶
R	۱	muib	ʊi	۳۷

A = تسلیم کلید:

R = مسترد

جدول ۲: اردو کے ۲۰ مقررین کے تہرے مصوتون کے سروے کے نتائج

نمبر	تہرے مصوتے	الفاظ	ووٹوں کی تعداد	نتیجہ
۱	Iao	nIao	۲	R
۲	aIa~	razaiač	.	R
۳	oie	r oie	.	R
۴	aie	aie	.	R
۵	uie	tʃ <sup>h</sup> uie	.	R
۶	uia~	suiā~	.	R
۷	aIa	fIzaia	.	R
۸	oia~	doia~	.	R
۹	oia	poia	.	R
۱۰	ual	muaIna	.	R
۱۱	ɔIð	nɔIðt	.	R

A = تسلیم کلید:

R = مسترد

ان دوسرے مصوتون کی شناخت کے بعد ان کی صوت بنندی کی کوئی۔ دوسرے مصوتون کا دورانیہ نوٹ کیا گیا اور تمام مقررین کے دورانیے

[۳] جان کلارک اور کولن یالپ: "An introduction to Phonetics & Phonology" دوسرا ایڈیشن، شائع کرده بلیک ویل پبلشرز لمیٹڈ۔ مالڈن ماساچوست۔ ۱۹۹۵

[۴] ڈاکٹر محبوب عالم۔ "اردو کا صوتی نظام" شائع کرده افتخار عارف۔ پاکستان

۱۹۹۷-

[۵] فروزہ الفات اردو لغت: نیا ایڈیشن، شائع کرده فروز ستر

[۶] پیتر لیدھے فوگڈ، "A course in Phonetics" تیسرا ایڈیشن شائع کرده

بارکوٹ بریس جوانووش انکار پورینڈ۔ لاس اینجلس ۱۹۹۳

<http://en.wikipedia.org/wiki/Diphthong>

[۸]

<http://cslu.cse.ogi.edu/tutordemos/SpectrogramReading/cse551html/cse551/node9.html>

بعض دفعہ ایک طویل مصوتے کے دورانیہ (یعنی کہ ۲۰۰ سے ۳۵۰ ملی سیکنڈ) کی رینج میں بھی پایا گیا۔

دوبرے مصوتون کے اوسط دورانیے اور ان کے متعلقہ مصوتون کی اوسط دورانیوں کے حاصل جمع کے مقابلے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ اب اسی زبان نے جو دوبرے مصوتے شناخت کیے تھے، ان کے دورانیے واقعتاً ان کے متعلقہ بنیادی مصوتون کے دورانیے کے حاصل جمع سے کم تھے (دیکھئے جدول ۳)۔

### خلاصہ

انزو یا اور صوت بندی سے حاصل کیئے گئے ڈینا سے

بسم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ لا بوری اردو میں ۱۸ دوبرے مصوتے پائے جاتے ہیں۔ جبکہ ایک بھی تہرا مصوتہ نہیں پایا جاتا۔ یہ فہرست کم و بیش جامع ہے کیونکہ محققین، جو بذاتِ خود لا بوری اردو کے ابی زبان ہیں، نے تمام لغت کا جائزہ لیا۔

یہ نتیجہ بھی اخذ کیا گیا کہ تجزیہ عارکان کا طریقہ عمل نیز دوبرے اور تہرے مصوتون کی شناخت کا انحصار مقرر ہوتا ہے۔ صوت بندی سے حاصل شدہ دورانیوں کا دارو مدار بھی کافی حد تک مقررین پر تھا۔

### حوالہ جات

[۱] آمنہ وقار اور سحر وقار۔ اردو کے دوبرے مصوتون کی شناخت اور ان کی صمعاتی خصوصیات۔ شائع کرده اخبار اردو جون ۲۰۰۳ ایڈیشن، مقتدیرہ قومی زبان

زبان

[۲] جان لیور۔ "پہلا ایڈیشن کیمرج یونیورسٹی

پریس۔ برطانیہ۔ ۱۹۹۳۔

### ضمیمه

جدول ۳ : دوبرے مصوتون اور متعلقہ بنیادی مصوتون کے دورانیوں کا مقابلہ

نمبر	دوبرے مصوتے	دوبرے مصوتون کا اوسط دورانیہ (ملی سیکنڈ)	بنیادی مصوتون کا اوسط دورانیہ (ملی سیکنڈ)	بنیادی مصوتون کے اوسط دورانیہ کا حاصل جمع (ملی سیکنڈ)	
				دوئم	اول
۱	oi	۳۱۲،۸۱	۲۲۲،۳۸	۲۲۲،۷۲	۳۶۷،۱
۲	oe	۳۲۵،۱۶	۲۳۳،۳۸	۲۳۳،۵۳	۳۷۰،۹۲
۳	Io	۱۶۱،۵۳	۹۶۱	۲۲۳،۳۸	۲۲۰،۳۸
۴	əi	۲۸۳،۱	۱۰۶،۶۲	۲۲۲،۷۲	۲۲۹،۳۳
۵	əe	۲۹۸،۳	۱۰۶،۶۲	۲۲۶،۵۳	۲۲۳،۱۶
۶	ʊə	۱۶۸،۵۵	۹۷،۹۳	۲۲۷،۸۷	۲۳۵،۸

۲۰۳۰۵۵	۹۸۰۹۳	۱۰۶۰۶۲	۱۵۰۰۴۵	vθ	<
۲۳۲۰۹۸	۲۳۲۰۸۸	۹۶۰۱	۲۱۶۰۸	aI	۸
۲۴۲۰۲۵	۲۳۲۰۸۸	۲۳۲۰۳۸	۲۳۸۰۱۲	ao	۹
۶۰۱۰۹۳	۲۳۲۰۸۸	۲۶۲۰۰۶	۲۳۹۰۹۶	au~	۱۰
۳۵۱۰۹	۲۳۲۰۸۸	۲۱۲۰۰۳	۱۶۲۰۱۲	au	۱۱
۵۹۶۰۷۸	۲۳۲۰۷۲	۳۶۲۰۰۶	۳۱۳۰۰۹	iu~	۱۲
۳۶۲۰۱	۲۳۲۰۷۲	۲۳۲۰۳۸	۳۲۲۰۲	io	۱۳
۳۴۲۰۳۱	۲۳۲۰۵۲	۲۳۲۰۸۸	۲۹۸۰۹۵	ea	۱۴
۳۲۰۰۹۲	۲۳۲۰۵۲	۲۳۲۰۳۸	۳۱۲۰۹۲	eo	۱۵
۳۵۱۰۹	۲۱۲۰۰۳	۲۳۲۰۸۸	۲۹۹۰۸۸	ua	۱۶
۳۳۲۰۷۵	۲۱۲۰۰۳	۲۳۲۰۷۲	۳۲۹۰۲۶	ui	۱۷
۳۵۰۰۵۸	۲۱۲۰۰۳	۲۳۲۰۵۲	۳۵۰۰۱۱	ue	۱۸

جدول ۳: اردو کے ۲۰ مقررین کے دوسرے مصوتون کے انثروپیو کے نتائج

نمبر	دوسرا مصوت	ووٹوں کی تعداد	iu~	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰
۱	.	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۱	.	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۱	۱
۱	.	۱	۰	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۱	۱
۱	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۱	۱
۱	.	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱
۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	.	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	.	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	.	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	.	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	.	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۱	.	۱	.	۱	.	۱	۱	۱	.	۱	۱	۱	.	۱	۱	۱	۱	۱۲	ua	۱۲
۱	.	۱	۱	۱	۱	.	۱	.	۱	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱۲	ue	۱۳	
۱	.	۱	.	۱	.	۱	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱۰	oi	۱۳	
۱	.	۱	۱	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱۰	Io	۱۵	
۱	۱	۱	۱	.	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱۰	uθ	۱۶	
.	.	۱	.	۱	.	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	۱	۱۰	io	۱۷	
۱	.	.	۱	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱۰	ua	۱۸	
۱	۱	۱	.	۱	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱۹	oī~	۱۹
۱	۱	۱	.	۱	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱۸	əl	۲۰
۱	۱	۱	.	۱	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱۸	ae~	۲۱
.	.	.	.	۱	.	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱۸	ia	۲۲
۱	۱	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱۸	eθ	۲۳
.	.	.	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱۹	ui~	۲۴
۱	۱	۱	.	۱	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱۹	ai~	۲۵
.	.	۱	.	۱	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱۹	ai	۲۶
۱	۱	۱	.	۱	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱۹	oe~	۲۷
.	.	۱	.	۱	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱۹	əu	۲۸
.	.	۱	.	۱	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱۹	ið	۲۹
۱	.	.	.	۱	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱۹	ia~	۳۰
۱	۱	۱	.	۱	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱۹	æi	۳۱
.	.	۱	.	۱	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱۹	ae	۳۲
.	.	۱	.	۱	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱۹	ie	۳۳
.	.	۱	.	۱	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱۹	uo~	۳۴
.	.	۱	.	۱	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱۹	ue~	۳۵
.	.	۱	.	۱	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱۹	ua~	۳۶
.	.	۱	.	۱	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱	.	۱	۱۹	ui	۳۷

م = لابوري اردو کے مقرر

مقرر دوپریہ مصوتہ نہیں شناخت کیا ۔

مقرر نے دوپریہ مصوتہ شناخت کر لیا ۱ =

جدول ۵: اردو کے ۲۰ مقررین کے تہرے مصوتوں کے انشویوکے نتائج

نمبر	تہرے مصواتے	ووٹوں کی تعداد	م	۲۰	م	۳	۴	۵	۶	۷	م	۸	۹	۲۰	م	۲۲	م	۲۳	م	۲۴	م	۲۵	م	۲۶	م	۲۷	م	۲۸	م	۲۹	م	۲۰
۱	Iao	۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲
۲	aIa~	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳
۳	oie	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴	
۴	aie	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵	
۵	uie	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶	
۶	aIa~	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷	
۷	oiA~	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸	
۸	oia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹	
۹	uaI	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰	
۱۰	CIð	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱	

م = لاپوری اردو کے مقرر

مقرر تہرہ مصوٹہ نہیں شناخت کیا = .

مقرر نے تہرہ مصوٹہ شناخت کر لیا = ۱

(جدول ۶: اردو کے ۶ مقررین کے دوپرے مصوتوں کے دورانیئے (۳ حضرات اور ۳ خواتین

اوسط دورانیہ (ملی سیکنڈ)	(ایل زبان کے دورانیئے (ملی سیکنڈ						دوپرے مصوتے	نمبر
	سلمان	ندا	احمد	مریم	اسعد	کن		
۳۱۲۰۸۰۲۲	۳۰۷۰۹۱۶	۳۲۲۰۲۵۱	۲۲۲۰۷۳۶	۲۵۹۰۳۱۳	۳۲۸۰۱۳۲	۲۹۳۰۳۲۵	oi	۱
۳۲۵۰۱۲۴۸	۳۱۳۰۱۰۹	۳۰۹۰۶۰۳	۲۳۳۰۰۶۳	۳۰۸۰۳۱۶	۳۳۷۰۸۸۲	۳۲۸۰۹۳۳	oe	۲
۱۷۶۰۵۲۶۳	۱۹۷۰۳۰۳	۱۹۲۰۳۲۱	۱۵۹۰۳۲۱	۱۲۲۰۲۷۲	۱۴۲۰۹۲۵	۱۶۷۰۸۸۶	Io	۳
۲۸۳۰۹۰۷	۲۸۳۰۳۱۶	۲۷۱۰۰۳۹	۲۳۸۰۳۸۹	۲۳۹۰۷۱۸	۳۲۷۰۰۷۶	۲۸۷۰۸۹۶	əi	۴
۲۹۸۰۳۹۹۷	۳۲۵۰۰۷۹	۲۲۶۰۰۲۹	۲۶۸۰۶۲۸	۲۵۵۰۹۰۱	۳۲۶۰۰۷۵	۲۸۶۰۹۶۱	əe	۵
۱۷۸۰۵۳۲۷	۲۲۳۰۰۷۵	۱۸۳۰۵۰۷	۱۵۷۰۷۱۱	۱۴۳۰۰۲۳۸	۱۶۸۰۵۷۱	۱۶۲۰۰۵۳	ʊə	۶
۱۵۰۰۳۳۳۸	۱۷۵۰۳۱۱	۱۶۲۰۰۵۵۲	۱۶۰۰۱۳۵	۱۳۱۰۳۹۱	۱۲۳۰۰۳۰۵	۱۳۹۰۸۶۵	ʊə̇	۷
۲۱۶۰۰۷۶۳	۳۱۰۰۶۱	۱۹۷۰۵۵۶	۲۰۳۰۲۳۲	۲۰۶۰۵۸۵	۱۸۸۰۳۰۸	۱۹۰۰۱۵۷	aɪ	۸
۳۲۸۰۶۱۲۸	۳۹۹۰۶۲۱	۳۳۱۰۱۸۳	۳۲۸۰۷۱۵	۳۲۱۰۶۳۲	۳۸۶۰۶۱۲	۳۰۳۰۳۰۳	ao	۹
۳۳۹۰۹۵۸۵	۳۶۵۰۳۵۵	۳۳۶۰۸۸۱	۳۲۵۰۹۲۸	۳۲۹۰۸۸۳	۳۵۲۰۹۸۲	۳۲۸۰۶۱۶	əu̇	۱۰
۱۷۷۰۱۲۳۷	۱۹۶۰۹۳۳	۱۶۸۰۶۹۳	۱۵۵۰۹۹۷	۱۴۳۰۰۳۳	۱۶۱۰۰۲۳	۲۰۶۰۹۵۷	əu	۱۱
۳۱۳۰۰۸۵۲	۳۰۵۰۶۰۱	۳۰۰۰۲۷	۲۸۷۰۰۲۱	۲۸۱۰۸۱۲	۳۲۶۰۰۵۷۵	۲۲۷۰۰۰۲	iʊ̇	۱۲
۳۲۲۰۱۹۸	۳۵۲۰۷۰۳	۳۲۵۰۳۲۶	۲۳۹۰۵۲۹	۳۰۹۰۳۲۳	۳۹۱۰۸۶۱	۳۱۳۰۰۳۶	io	۱۳
۲۹۸۰۹۳۷۲	۲۹۱۰۳۶۸	۲۶۵۰۳۰۵	۲۸۵۰۸۷۲	۳۰۷۰۷۶۲	۳۳۷۰۹۱	۲۹۵۰۳۶۱	əə	۱۴
۳۱۲۰۹۱۵۸	۳۰۳۰۰۸۵	۲۸۳۰۸۰۱	۳۲۹۰۸۱۷	۳۰۳۰۰۵۹	۳۲۵۰۰۹۲	۳۲۰۰۰۲۱	əə̇	۱۵
۲۹۹۰۸۶۱۸	۲۸۰۰۹۰۸	۲۳۲۰۱۶۵	۳۱۳۰۰۲۱	۲۸۳۰۰۲۶	۳۸۳۰۰۲	۳۲۳۰۰۵۷۵	ʊə	۱۶
۳۲۹۰۲۵۲۷	۳۱۳۰۰۹	۲۹۳۰۲۵۹	۳۱۶۰۶۸۸	۳۰۸۰۶۰۶	۳۰۵۰۳۸۳	۳۲۶۰۰۵۷	ui	۱۷
۳۵۰۰۱۷	۳۱۹۰۲۶۸	۳۶۸۰۱۹۶	۳۶۷۰۱۵۹	۳۰۹۰۸۹۳	۳۹۷۰۰۶۹۸	۳۲۸۰۰۳۲۸	ue	۱۸

(جدول ۷: اردو کے ۶ مقررین کے بنیادی مصوتوں کے دورانیئے (۳ حضرات اور ۳ خواتین

اوسط دورانیہ (ملی سیکنڈ)	(ایل زبان کے دورانیئے (ملی سیکنڈ						بنیادی مصوتے	نمبر
	سلمان	ندا	احمد	مریم	اسعد	کن		
۲۳۷۰۸۶۳۵	۲۰۳۰۰۵۷	۲۳۵۰۵۶۹	۲۲۸۰۵۸۳	۲۰۵۰۳۱۵	۲۸۳۰۹۰۱	۲۰۸۰۶۶۱	a	۱
۲۲۳۰۰۳۷۷	۲۰۱۰۷۰۳	۲۲۰۰۰۵۶	۲۶۰۰۹۷۵	۲۰۳۰۰۷۵	۲۷۲۰۰۰۸	۲۳۶۰۰۶۶۶	o	۲

۲۳۰-۸۷۵	۲۱۸-۹۳۵	۲-۹-۶۲۱	۲۸۲-۱۰۱	۲-۹-۰۳۵	۲۲۲-۲۸۵	۱۹۸-۲۶۳	۰	۳
۲۳۶-۵۲۹۳	۲۱۷-۰۹۹	۲۲۲-۲۱۲	۲۸۲-۹۲۵	۲۲۱-۳۲	۲۲۳-۲۶۳	۱۹۳-۹۱۴	e	۲
۲۳۲-۷۱۵۲	۲۲۱-۵۲۵	۲۲۲-۲۲۹	۲۱۹-۲۲۳	۱۲۳-۲۱۳	۲-۰-۳۹۲	۲۲۸-۱۳	i	۵
۲۳۷-۳۶۳۸	۲۲۱-۶۳۲	۲۵۶-۹۱	۲۵۲-۲۸۵	۲۲۱-۵۹۱	۲۳۵-۳۷۶	۲۱۱-۲۹	æ	۶
۲۱۳-۰۲۵۲	۲۲۳-۰۶	۲۲-۹۵۹	۲-۰-۶۳۲	۱۳۱-۱۸۲	۲۲۳-۵۹۹	۲۱۶-۶۰۴	u	۴
۱-۲-۲۱۹۸	۱۳۱-۰۹	۸۶-۰۵۳	۱-۰-۰-۲۵	۱۱۳-۰۹	۱۱۸-۱۸۲	۸۳-۸۹۳	ə	۸
۹۶-۰۹۹۸۳	۸۳-۳۳۹	۹۱-۲۸۳	۹-۰-۴	۸۳-۳۵۵	۹۹-۸۵۳	۱۳۶-۳۵۸	I	۹
۹۲-۹۲۸۱۲	۱-۰-۵۸۲	۸۲-۰۶	۸۲-۲۱۲	۹۵-۹۸۶	۸۳-۸۰۲	۱۲۹-۳۲۴	U	۱۰
۲۲۱-۹۸۳۵	۳۲-۰-۷۹	۲۸۱-۰۶۳	۲۲۱-۱۹۲	۲۸۳-۰۶۳	۲-۰-۸-۲۲۱	۳-۰-۶-۲۳۲	i~	۱۱
۲۶۵-۷۲۵۶	۲۲۹-۱۶۶	۳-۰-۸-۲۲۲	۲۲۶-۱۲۲	۳-۰-۶-۲۳۶	۲۶۲-۳	۳۲-۰-۲۲۸	æ~	۱۲
۳۸۲-۷۵-۰	۲۲۱-۹۲۳	۲۲۹-۰۲۱	۲۱۱-۸-۶	۲۲۲-۰-۲۲۳	۵۲۸-۸۸۳	۳۲۶-۰-۱۲۲	a~	۱۳
۳۶۳-۰۵۲۳	۲۲۱-۹۵۲	۲۲۹-۰۲۱	۳-۰-۰-۱۱	۲۱۲-۲۸۸	۳۹۳-۱۸۳	۳۱۰-۰-۶	u~	۱۴
۳۸۱-۱۲۲۳	۳۲۰-۰۵۲۱	۲۲۲-۰-۰۳	۳-۰-۳-۰۳۱	۲۵۱-۶۶۶	۵۲۳-۶۲	۳۲۰-۰-۳۹۹	o~	۱۵
۲۸۸-۵۸۳۲	۲۶۹-۰۵۲۹	۳۲۶-۰۸۱۲	۲۸۲-۰-۹۳	۲۵۸-۰-۸۱۹	۳۲۲-۰-۲۶۳	۲۶۳-۰-۸۹	e~	۱۶